



اس کو کسی اور رنگ سے بدل لو، لیکن کالا رنگ سے دور رہنا

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابوقحافہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال ثغام گھاس (ایک گھاس جس کے پھل اور پھول سب سفید ہوتے ہیں) کی طرح سفید تھے آپ نے حکم دیا: ”اس کو کسی اور رنگ سے بدل لو، لیکن کالا رنگ سے دور رہنا“
[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال ثغام گھاس کی طرح سفید ہو گئے تھے ثغام ایک قسم کا سفید رنگ کا گھاس ہے جب آپ نے انہیں اس حال میں دیکھا، تو فرمایا: ”اس کو کسی اور رنگ سے بدل لو، لیکن کالا رنگ سے دور رہنا“ آپ نے ان کے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کو کالا کرنے سے بچو، اس لیے کہ بالوں کو کالا کرنا انسان کو دوبارہ جوان بنانا ہے یہ تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فطرت اور اس کی سنت کے منافی ہے جہاں تک باقی رنگوں کا تعلق ہے جیسے لال اور نیلا رنگ یا مہندی اور وسم ملے ہوئے رنگ، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کالا کے علاوہ ایسا رنگ ہو جو کالا اور سُرخ کے درمیان ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ممانعت صرف خالص کالا رنگ کی ہے صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما مہندی اور وسم لگایا کرتے تھے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/8909>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

